



یہ تیرا باپ ہے، اور یہ تیری ماں ہے، ان میں سے جس کا ہاتھ چاہے پکڑ لے

ابو میمونہ سلمیٰ جو مدینہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں، سچے آدمی ہیں کہنے میں کہ دریں اثناء کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فارس کی رہنے والی ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی، اس عورت نے فارسی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کیں وہ کہنے لگی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرا شوہر بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: قرعہ ڈالو اس کا شوہر آیا، اور کہنے لگا میرے بیٹے کے بارے میں کون جھگڑتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا اللہ! میں نہیں کہتا مگر میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا تو ایک عورت آپ کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول میرا شوہر بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے حالانکہ وہ مجھ کو نفع دیتا ہے، ابو عنبرہ کے کنوئیں سے مجھے پانی پلاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قرعہ ڈالو، اس کے شوہر نے کہا کہ کون میرے بیٹے کے بارے میں جھگڑتا ہے؟ تو رسول نے فرمایا ”یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے، ان میں سے جس کا ہاتھ چاہے پکڑ لے“ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، چنانچہ اسے لے کر وہ چلی گئی۔
[صحیح] [اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے] - اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے] - اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے] - اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے] - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں بچے کے مفادات کا خیال کرنے کا بیان ہے اور ایسا اس وجہ سے کہ اس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ رہا، اس عورت کی حاجت کے باوجود اس کا شوہر اس کے بیٹے کو لے جانا چاہتا تھا اور اس کی پرورش اور دیکھ بھال میں رکاوٹ بن رہا تھا، حالانکہ وہ بچے بھی باپ کی عدم قدرت کی بنا پر اس ماں کی حفاظت و نگرانی کا ضرورت مند تھا، تو اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دیا، جو نبی سے سنا تھا، اسی جیسی عورت کے حق کے بارے میں، کیونکہ پرورش ایسی ذمہ داری ہے جس کے ذریعے بچے کی پرورش اور اس کے مفادات کا خیال کیا جاتا ہے، بچے سن سن کر اسے پالنے اپنی ماں کے پاس رہے گا، جب تک کہ اس کی ماں شادی نہ کر لے، جب سن تمیز کو پہنچ جائے اور اپنے بعض معاملات میں خود مختار ہو جائے، یعنی بہت سارے معاملات میں خود مختار ہو جائے، اس وقت ماں اور باپ اس کی پرورش میں برابر کے حق دار ہوں گے، ایسی صورت میں اس بچے کو اختیار دیا جائے گا، ان میں سے جس کسی کے پاس جانا چاہے وہ اسے لے گا۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58190>